



سوال

بینوں کے حصص کی خریداری

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا سعودی عرب میں کام کرنے والے بینوں مثلاً سعودی امریکی بینک، سعودی کمرشل بینک وغیرہ کے حصص کو خریدنا جائز ہے جنہوں نے آج کل فروخت کے لیے اپنے حصص پیش کئے ہیں، رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ عنا الف خیر؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سودی بینوں کے حصص کو خریدنا اور بینوں وغیرہ کے ساتھ سودی معاملات کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گناہ اور ظلم کی باتوں میں تعاون ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّوَدُّنِ ۚ سورة المائدة ۲

"اور نیکی اور پیرہیزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔"

حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 2 ص 517

محدث فتویٰ